

بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں معلومات

حفاظتی ٹیکے ہماری صحت کے لئے بہت اہم ہیں۔ بچوں کے لئے حفاظتی ٹیکے **مفت** ہیں۔

اونٹاریو میں یہ لازم ہے کہ بچوں کے اسکول جانے سے پہلے انہیں حفاظتی ٹیکے لگے ہوئے ہوں۔ ساتویں جماعت میں بچوں کو اسکول میں مزید تین اہم ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ (ایچ - پی - وی، ہیپاٹائٹس بی اور گردن توڑ بخار - ACYW135)

پبلک ہیلتھ طالب علموں کو لگائے گئے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ رکھتا ہے۔
والدین - براہ مہربانی اپنے بچوں کے ٹیکوں کا پبلک ہیلتھ میں اندراج کرائیں۔

کیسے؟

اگر آپکے بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ کسی دوسرے ملک سے ہے تو براہ مہربانی اسے انگریزی میں ترجمہ کرائیں اور پبلک ہیلتھ کو بھجوا دیں۔

• بذریعہ ڈاک :

ویکسین پروگرام - پی - او - باکس-897
بیملٹن ، اونٹاریو -L8N 3P6

• بذات خود :

110 کنگ سٹریٹ ویسٹ ، دوسری منزل
بیملٹن ، اونٹاریو - L8P 1A2
(رابرٹ تھومپس بلڈنگ - جیکسن اسکوائر)

اگر آپکے پاس حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ نہیں ہے تو آپکے بچے کو دوبارہ ٹیکے لگانے پڑیں گے۔ حفاظتی ٹیکے نہایت محفوظ ہیں۔ دوبارہ ٹیکے لگانے میں کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کے ڈاکٹر حفاظتی ٹیکے لگا سکتے ہیں۔ آپکے بچے کو 3 سے 4 مرتبہ جانا پڑ سکتا ہے۔

اگر آپکے بچے کے پاس **ہیلتھ کارڈ نہیں ہے** تو آپ حفاظتی ٹیکوں کے لئے طے شدہ وقت پر درج ذیل مقام پر تشریف لا سکتے ہیں۔

• پبلک ہیلتھ کمیونٹی کلینک

905-540-5250 - اپنی زبان کا انتخاب کیجئے اگر آپکو مترجم چاہیے۔

اگر آپکے بچے کو اسکول کے لئے درکار حفاظتی ٹیکے نہیں لگے تو انہیں اسکول سے معطل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپکو بچے کی معطلی کے بارے میں اسکول سے کوئی خط موصول ہو تو براہ مہربانی پبلک ہیلتھ کو اس نمبر پر کال کریں: 905-540-5250